

1

غذا: یہ کہاں سے آتی ہے

(Food : Where Does It Come From)

در اصل بات یہ ہے کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں اس میں بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے۔ یہ تمام غذائی اشیا کس چیز سے بنی ہوتی ہیں؟ گھر پر پکائے جانے والے چاولوں پر غور کیجیے۔ ہم کچے چاول لیتے ہیں، انہیں پانی میں ابالتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس کھانے کے لیے چاول تیار ہیں۔ انہیں تیار کرنے کے لیے صرف دواشیا کی ضرورت ہے: چاول اور پانی کچھ غذائی اشیا کو تیار کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم سبزی کا سالن بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں مختلف سبزیاں، نمک، مصالحے، تیل وغیرہ درکار ہوں گے۔



عملی کام 2

جدول 1.1 میں سے غذائی اشیا کا انتخاب کیجیے اور گھر پر یا اپنے دوستوں سے بات کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کیجیے کہ یہ غذائی اشیا کن کن چیزوں سے تیار کی جاتی ہیں۔ غذائی اشیا اور ان کے جزو ترکیبی کی فہرست تیار کیجیے جیسا کہ جدول 1.2 میں دکھایا گیا ہے۔ کچھ مثالیں دی گئی ہیں، اس فہرست میں مزید اضافہ کیجیے۔

آج آپ نے گھر پر کیا کھایا؟ آج آپ کے دوست نے کیا کھایا؟ کیا ہم سبھی لوگ ہر روز ایک ہی قسم کی غذا کھاتے ہیں؟


1.1 غذا کی اقسام (Food Variety)

عملی کام 1

اسکول میں اپنے دوستوں سے معلوم کیجیے کہ وہ تمام دن کیا کیا چیزیں کھائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ تمام جانکاری ان دوستوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں جو ہندوستان کی مختلف روایتوں میں رہتے ہیں۔ ان سبھی اشیا کی فہرست اپنی کاپی میں بنائیے جیسا کہ جدول 1.1 میں دیا گیا ہے۔

جدول 1.1 ہم کیا کھاتے ہیں؟

طالب علم / دوست کا نام	دن بھر میں کھائی گئیں غذائی اشیا



سے حاصل ہوتی ہیں۔ چاول اور گیہوں کے ذرائع کیا ہیں؟ آپ نے گیہوں اور دھان کے کھیتوں میں ان کے پودوں کی قطاریں دیکھی ہوں گی جن سے ہمیں اناج حاصل ہوتا ہے۔ دودھ، انڈے، گوشت، مرغ، مچھلی، جھینگا، بھینس اور سور کا گوشت اور ایسی ہی کچھ اور غذا ہمیں ہیں جو جانوروں سے حاصل ہوتی ہیں۔

عملی کام 3

آئیے جدول 1.1 اور 1.2 میں درج غذائی اشیا کو لیتے ہیں اور یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آتی ہیں۔ ان کے اجزاء ترکیبی اور ذرائع کیا ہیں۔ کچھ مثالیں جدول 1.3 میں دی گئی ہیں۔ اس میں کچھ اور مثالوں کا اضافہ کیجیے۔



جدول 1.2 غذائی اشیا اور ان کے خام مادے

غذائی اشیا	اجزاء ترکیبی
روٹی/چپاتی	آٹا، پانی
DAL	DALیں، پانی، نمک، تیل کھی، مصالحے

ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جو مختلف غذائی اشیا ہم نے منتخب کیں ان میں کیا کچھ اجزاء ترکیبی مشترک ہیں۔ اپنی کلاس میں اس پر بحث کیجیے۔ یہ اجزاء ترکیبی کہاں سے آتے ہیں؟

1.2 غذائی اشیا اور ذرائع (Food Materials and Sources)



اس بات کا اندازہ لگانا ہم سب کے لیے آسان ہے کہ جدول 1.2 میں ہم نے جن اجزاء ترکیبی کی فہرست تیار کی ہے ان کے ذرائع کیا ہیں۔ مثال کے طور پر پھل اور سبزیاں، یہ کہاں سے آتی ہیں۔ بلاشبہ یہ سب پودوں

1.3 پودوں کے حصے اور حیوانی ماحصلات بطور غذا


پودے ہماری غذا کا ایک ذریعہ ہیں۔ یہ پودوں کے کون کون سے حصے ہیں۔ کبھی کبھی ہم پودوں کی جڑوں، تنوں اور پھولوں کا بھی استعمال غذا کے طور پر کرتے ہیں۔

کیا آپ نے کبھی کدو کے پھول جن کو چاول کے پیٹ میں ڈبو کر تلا گیا ہو کھائے ہیں۔ اگر نہیں تو کھا کر دیکھیے۔



کچھ پودوں میں ان کی دو یادو سے زیادہ حصے غذا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ مرسوں کے پودے کے بیجوں سے

ہمیں تیل حاصل ہوتا ہے اور پتیوں کا استعمال سبزی کے طور پر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کلیے کے پودے کے ان مختلف حصوں کے بارے میں بتاسکتے ہیں جو غذا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ کچھ اور مثالوں پر غور کیجیے جہاں ایک ہی پودے کے کئی حصوں کا استعمال غذا کے طور پر کیا جاتا ہے۔



جدول 1.3 غذائی اشیا کو بنانے میں استعمال کیے جانے والے اجزاء ترکیبی اور ان کے ذرائع

غذائی اشیا	اجزائے ترکیبی	ذرائع
اڈلی	چاول	پودا
	دال ارد	
	نمک	
	پانی	
چکن کری	چکن	جانور
	مصالحے	
	تیل/اگھی	پودے/جانور
	پانی	
کھیر	دودھ	جانور
	چاول	پودے
	چینی	

عملی کام 3 سے ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ پودے، دانے، انارج، سبزیاں اور پھل جیسے غذائی اجزاء کے ذرائع ہیں۔ جانوروں سے ہمیں دودھ گوشت اور انڈے حاصل ہوتے ہیں۔ گائے، بکریاں اور بھینس کچھ ایسے جانور ہیں جن سے ہمیں دودھ حاصل ہوتا ہے۔ دودھ اور مکھن، کریم، پنیر اور دہی جیسی دودھ سے بنی اشیا پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں۔ کیا آپ ایسے کچھ اور جانوروں کے نام بتاسکتے ہیں جن سے ہمیں دودھ حاصل ہوتا ہے؟

غذا: یہ کہاں سے آتی ہے؟

عملی کام 4

عملی کام 5

موگ یا پنے کے کچھ خشک بیج جمع کیجیے۔ اب ان بیجوں کی تھوڑی سی مقدار لے کر پانی سے بھرے ہوئے برتن میں ڈال کر ایک دن کے لیے رکھ دیجیے۔ اگلے دن برتن سے پانی کو نکال کر بیجوں کو اس میں رہنے دیجیے۔ انہیں بھیکے ہوئے کپڑے سے ڈھک کر چھوڑ دیجیے۔ اگلے روز کیا آپ ان بیجوں میں کسی قسم کی تبدیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ شاید ان بیجوں میں ایک چھوٹی سی سفید ساخت پھوٹ لکھی ہے۔



اگر ایسا ہے تو بیجوں میں کل پھوٹ آئے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بیجوں کو پانی سے دھو دیجیے اور برتن کا پانی پھینک کر انہیں گلے کپڑے سے ڈھک کر اسی طرح رکھا رہنے نہیں۔ کچھ پودے زہر لیے ہو سکتے ہیں۔

جدول 1.3 میں جتنی بھی غذائی اشیا آپ نے شامل کی ہیں ان میں سے وہ اشیا منتخب کیجیے جن کے اجزاء ترکیبی پودوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اجزاء ترکیبی پودوں کے کن کن حصوں سے آتے ہیں؟ ان کی شناخت کیجیے اور غذائی اشیا نیز پودوں کے حصوں کی فہرست تیار کیجیے جیسا کہ جدول 1.4 میں دکھایا گیا ہے۔

اپنے اطراف میں موجود نامعلوم پودوں کو کھا کر یہ جاننے کی کوشش مت کیجیے کہ وہ کھانے لاکت ہیں یا نہیں۔ کچھ پودے زہر لیے ہو سکتے ہیں۔

جدول 1.4 پودوں کے حصے بطور غذا

غذائی شے	اجزائے ترکیبی/ذریعہ	پودے کا وہ حصے جس سے ہمیں اجزاء ترکیبی حاصل ہوتے ہیں۔
-1- بینگن کی سبزی	بینگن	پھل
	مصالحے کے طور پر (کوئی اور)	پھل
-2	موگ پھلی، سرسوں، سویا میں کا تیل یا کوئی اور پودا	بیج
-3		

دیکھتے ہیں تو ہم مکھیوں کے ذریعہ جمع کی گئی غذا کو شہد کے طور پر حاصل کر لیتے ہیں۔

1.5 جانور کیا کھاتے ہیں؟

کیا آپ کے پاس کوئی مویشی یا پالتو جانور ہے جس کی آپ دیکھ بھال کرتے ہیں؟ کتنا، بلی، بھینس یا کوئی بکری؟ پھر تو آپ اس غذا سے ضرور واقف ہوں گے جو یہ جانور کھاتے ہیں۔ دیگر جانوروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ گلگھری، کبوتر، چچپلی یا چھوٹے کیڑے غذا کے طور پر کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟

عملی کام 6

جدول 1.5 میں متعدد جانوروں کی فہرست دی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ جانوروں کے ذریعے لی جانے والی غذا کی قسم بھی دی گئی ہے۔ جدول میں خالی جگہوں کو پر کیجیے۔



عملی کام 7

جدول 1.5 کو ایک مرتبہ پھر دیکھیے اور یہاں پر درج کیے گئے جانوروں کی مندرجہ ذیل طریقے سے درجہ بندی کیجیے۔ وہ جانور

دیں۔ اگلے دن مشاہدہ کیجیے کہ کیا بجou میں کلے پھوٹ آئے ہیں۔

کلے پھوٹے ہوئے بجou کو پانی سے دھونے کے بعد آپ انھیں کھا سکتے ہیں۔ انھیں ابال سکتے ہیں۔ ان میں تھوڑا سا مصالحہ ملائیے اور کھانے کے لیے ذائقہ دار ناشستہ تیار ہے۔



کیا آپ کو معلوم ہے کہ شہد کھاں سے آتا ہے یا اسے کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟ کیا آپ نے شہد کی مکھیوں کا چھتہ دیکھا ہے جہاں بہت سی مکھیاں بجھننا تی رہتی ہیں؟ مکھیاں پھولوں سے رس (Nectar) جمع کرتی ہیں اور اسے

شہد میں تبدیل کر کے اپنے چھتے میں جمع کر لیتی ہیں۔ پھول اور ان کا رس سال بھر میں کچھ ہی دنوں کے لیے دستیاب رہتا ہے۔ اس لیے مکھیاں اس رس کو پورے سال استعمال کرنے کے لیے جمع کر لیتی ہیں۔ جب ہم کسی ایسے چھتے کو

غذا: یہ کھاں سے آتی ہے؟

مکمل جاننا چاہتی ہے کہ جدول 1.6 کو بھرتے وقت
آپ انسان کو کس زمرے میں رکھیں گے



جدول 1.6

ہم خور	گوشت خور	نباتات خور
ستا	شیر	گائے

ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے ایسے بہت سے افراد ہیں جنھیں بھرپور غذا نہیں ملتی۔ ہمیں ایسے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت ہے جن کی مدد سے ملک میں زیادہ سے زیادہ غذا پیدا کی جاسکے۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ایسے طریقے بھی تلاش کیے جائیں جن سے ہر ایک فرد کے لیے غذا کی دستیابی کو یقینی بنایا جاسکے۔

جو صرف پودوں یا پودوں سے حاصل ہونے والے ماحصلات کو ہی کھاتے ہیں انہیں گروپ 1 میں رکھیے۔ یہ جانور نباتات خور (Herbivores) کہلاتے ہیں۔ جو جانور دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں گوشت خور (Carivores) کہلاتے ہیں۔ وہ جانور جو پودوں اور دوسرے جانوروں دونوں کو کھاتے ہیں وہ ہمہ خور (Omnivores) کہلاتے ہیں۔ جدول 1.6 کی طرح ایک جدول بنائیے اور انہیں تین کالموں میں علیحدہ علیحدہ درج کیجیے۔

جدول 1.5 جانور اور ان کی غذا

جانور کا نام	غذا جو جانور کھاتے ہیں
بھینس	گھاس، کھلی، بھوسا، انانج،
بلی	چھوٹے جانور، پندے، دودھ
چوہا	
شیر	
چیتا	
مکڑی	
گھریلو چپکی	
گائے	
انسان	
تلنی	
کوا	
دیگر	

کلیدی الفاظ



اجزائے ترکیبی

خوردانی شے

پھولوں کا رس

کلے پھوٹے ہوئے بچ

نباتات خور

گوشت خور

ہمہ خور

خلاصہ

- ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں مختلف قسم کی غذا کیں استعمال کی جاتی ہیں۔
- پودے اور جانور ہماری غذا کے اہم ذرائع ہیں۔
- وہ جانور جو صرف پودوں کو کھاتے ہیں نباتات خور کہلاتے ہیں۔
- وہ جانور جو صرف جانوروں کو کھاتے ہیں گوشت خور کہلاتے ہیں۔
- وہ جانور جو پودوں اور دیگر جانوروں دونوں کو کھاتے ہیں ہمہ خور کہلاتے ہیں۔

مشقیں

- کیا سبھی جانداروں کو ایک ہی قسم کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے؟
- پانچ پودوں اور ان کے ان حصوں کے نام لکھیے جنہیں ہم کھاتے ہیں۔

غذا: یہ کہاں سے آتی ہے؟

3۔ کالم A میں دی گئی اشیا کو ملائیے کالم B سے ملائیے۔

کالم B	کالم A
دیگر جانوروں کو کھاتے ہیں	دودھ، دہی، پنیر، گھیر
پودوں اور پودوں کے ماحصلات کو کھاتے ہیں۔	پاک، پھول گوبھی، گاجر
سبزیاں ہیں	شیر اور چیتا
حیوانی مصنوعات ہیں	نباتات خور

4۔ دیئے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔

نباتات خور، پودا، دودھ، گنا، گوشت خور

چیتا ایک _____ جانور ہے کیونکہ وہ صرف گوشت کھاتا ہے۔ (a)

ہر صرف نباتاتی ماحصلات کو کھاتا ہے، اس لیے _____ کھلاتا ہے۔ (b)

ططا صرف _____ مصنوعات کو کھاتا ہے۔ (c)

چھے ہم پیتے ہیں وہ گائے، بھینس اور بکری سے حاصل ہوتا ہے اور ایک حیوانی مصنوعات ہیں۔ (d)

ہم چینی کو _____ سے حاصل کرتے ہیں۔ (e)

محوزہ پروجیکٹ اور عملی کام

1۔ آپ نے اپنے گھر کے آس پاس جگلی چھپکلی کو دیکھا ہوگا۔ اگلی مرتبہ جب آپ اسے دیکھیں تو اس کا بغور مشاہدہ کیجیے اور دیکھیے کہ یہ کیا کھاتی ہے۔ کیا اس کی غذا گھریلو چھپکلی کی غذا سے مختلف ہے؟

2۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے ذریعے کھانے والی غذا کی فہرست بنائیے (اگر ممکن ہو تو تصاویر بھی بنائیے) انہیں ہندوستان کے ایک بڑے سے نقشے پر دکھائیے اور اسے اپنی کلاس میں لگائیے۔

3۔ ایسے پودوں کا پتہ لگائیے جو پانی میں اگتے ہیں اور غذا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔

4۔ باب 10 میں آپ خمیدہ خطوط کی لمبائی کی پیمائش کے طریقے دیکھیں گے۔ آپ اپنی ریاضی کی کلاس میں بارگراف بنانا سیکھیں گے۔ انہیں سیکھنے کے بعد مندرجہ ذیل دلچسپ پروجیکٹ پر کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ کچھ کلیائی ہوئی موونگ تیار کیجیے جیسا کہ باب میں ذکر کیا گیا ہے۔ انہیں روزانہ پانی سے دھوئیے اور پانی پھینک دیجیے۔ انہیں ایک ہفتے تک اگنے دیجیے تاکہ تمام نیچ چھوٹے پودوں کی شکل اختیار کر لیں۔ ایک دھاگے کی مدد سے روزانہ ان ننھے

پودوں کی لمبائی کی پیمائش کیجیے۔ دھیان رہے کہ یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ مختلف رتبخ کی لمبائیوں والے کچھ گلوں کا بار گراف بنائیے۔

قابل غور باتیں

- 1۔ کیا آپ کے آس پاس رہنے والے سبھی لوگوں کو کافی مقدار میں غذا دستیاب ہو جاتی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟
- 2۔ ہم غذا کی بربادی کو روکنے کے کون کون سے طریقوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟